

حکومت کینیڈا نے 2022 فال اکنومک اسٹیئمنٹ

(2022 خزان کا معاشی گوشوارہ) جاری کر دیا

زندگی کو مزید قابل استطاعت بناتے ہوئے اور ایک ایسی معيشت کی تعمیر کرتے ہوئے جو سب کے کام آئے

ڈیپارٹمنٹ آف فناں کینیڈا

اوٹوا، اونتاریو

نومبر 3 ، 2022

آج ، دی اونرایبل کرسٹیافریلینڈ، ڈپٹی پرائیم منسٹر آف فناں، نے 2022 فال اکنومک اسٹیئمنٹ (2022 خزان کا معاشی گوشوارہ) جاری کر دی ہے۔

عالیٰ معيشت کی غیریقینی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ گوشوارہ حکومت کے اُس منصوبے کو واضح کرتا ہے جو کہ معيشت کی مہتممی اور کینیڈین شہریوں کے لئے بوقتِ ضرورت موجود رہنے کے بارے میں ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ خاندانوں کی مدد کے لئے ہے، جیسا کہ چیک آؤٹ کاؤنٹر پر بڑھی ہوئی قیمتیں، حکومت ان لوگوں کے لئے جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے مخصوص کرده مدد مہیا کر رہی ہے۔ حکومت کے جامع منصوبے کے مطابق جو ریائش کو مزید قابل استطاعت بنانے سے متعلق ہے یہ مدد مزید پیش رفت کا باعث بنے گی، بشمول اس کے کہ لوگوں کے گھر خریدنے کے لئے بیسے بچانے اور محفوظ کرنے میں بھی مدد کی جائے گی اور گھروں کے اتار چڑھاؤ کا تدارک کیا جائے گا۔ اور یہ صنعت کو مظبوط کرنے کے لئے ایک پرعزم منصوبے کی بنیاد رکھتا ہے اور ایک کامیاب ترقی کرتی ہوئی نیت۔ زیرو (جهان ماحولیاتی آلودگی اور غیرآلودگی مساوی ہو جائیں) معيشت تعمیر کرنے کے لئے جس کے ساتھ پورے ملک بھر اور معيشت بھر میں روکار اور بیش بھا موقع ہوں۔

کینیڈا کی معيشت ایک بنیادی طاقت کی حیثیت میں ہوئے ہوئے عالمی مخالف ہواؤں کا سامنا کر رہی ہے : یہ روزگاری کی شرح اپنے ریکارڈ شدہ کمی پر پہنچا۔ عالمی وباء سے پہلے کی نسبت—400,000، 40 زائد کینیڈیز آج ملازمت کر رہے ہیں، G7 میں اس سال سب سے زیادہ مضبوط معاشی نشوونما، ایک ٹریپل-ای کریڈٹ ریٹنگ، اور G7 میں سب سے کم ترین مجموعی قرضہ اور GDP خسارہ کی شرح کینیڈیز کو پُر اعتماد ہوں چاہئے کہ پہم پر مشکل پر قابو پا لیں گے اور آذ و الے دنوں میں خوشحال ہوں گے۔

وفاقی حکومت کا مالیاتی اینکر - COVID-19 سے متعلقہ خسارے کو ختم کرنا اور درمیانی مدت کے دوران وفاقی قرض سے جی ڈی بی کے تناسب کو کم کرنا --غیر مبدل رہا ہے۔ وفاقی قرضہ کی (GDP ratio) جی ڈی بی کی شرح مستقل تنزلی کی طرف حرکت کر رہی ہے اور اس تناسب سے اونچائی سے زیادہ نیچے کی جانب بڑھ رہی ہے جتنی کہ بجٹ 2022 میں پیش کی گئی تھی۔

قول

"آج کی فال اکنامک اسٹیئمنٹ (خزان کا معاشی گوشوارہ) ایسی معيشت کو پروان چڑھاڑ پر مرکوز ہے جو سب کے لئے مفید ہو۔ ایک ایسی معيشت جو اچھی ملازمتوں کے موقع پیدا کرے اور جو کینیڈیز کے لئے زندگی کو مزید قابل استطاعت بنائے۔ اگرچہ جیسا کہ آج پہمیں عالمی منفی اثرات رکھنے والی مخالف ہواؤں کا سامنا ہے، ہم آج جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں یہ کینیڈا کو آذ والی نسلوں تک کے لئے مزید مضبوط اور خوشحال بنائے گی۔"

دی اونرایبل کرسٹیافریلینڈ، ڈپٹی پرائیم منسٹر اور منسٹر آف فناں



Department of Finance
Canada

Ministère des Finances
Canada

Canada

فوری حقائق

2022 فال اکنومک استیممنٹ (2022 خزان کا معاشی گوشوارہ) میں تجویز کردہ نئے اقدامات میں یہ شامل ہیں:

1. زندگی کو مزید قابل استطاعت بنانے کی خاطر:

- فیڈرل اسٹوڈنٹ اور اپرینٹس قرضوں پر سود کا مستقل طور پر خاتمه؛
- ایک نیا، سہ ماہی کینیڈا ورکرز بینیفت بنایا جا رہا ہے جو خودکار پیشگی ادائیگی کے ساتھ ہو
- تا کہ جلد ہی مزید پیسے ان لوگوں کی جیبوں میں ڈالے جائیں جو سب سے کم اجرت پر کام کرنے والے ہیں؛
- حکومتی منصوبہ کے کلیدی ستونوں کے طور پر تاکہ ربائش کو مزید سستا اور قابل استطاعت بنایا جائے مہیا کر رہے ہیں، جس میں یہ باتیں شامل ہیں کہ نئے ٹیکس۔ فری فرست ہوم سیونگ اکاؤنٹ کا آغاز، پہلی بار گھر خریدنے والوں کے لئے ٹیکس کریڈٹ کا دُگنا کرنا، اور یہ یقین دیابن کرنا کہ جائیداد کا اُثار چڑھاؤ کرنے والے اپنا مناسب حصہ ضرور ادا کریں؛ اور،
- چھوٹے کاروبار کے لئے کریڈٹ کارڈ ٹرانسیکشن فیس کم کی جا رہی ہے -

2. ملازمتوں، ترقیات، اور ایک ایسی معيشت میں جو سب کے لئے مفید ہو۔ سرمایہ کاری کرنا

- نیا کینیڈا گروٹھ فنڈ شروع کیا جا رہا ہے جو کینیڈا میں بلین ڈالر کی پرائیویٹ سرمایہ کاری کو لازم میں مدد کرے گا جو کہ بیماری دھوئیں اور گیس کی آلودگی کو کم کرنے کے لئے، بیماری معيشت کو بڑھانے کے لئے، اور اچھی ملازمتوں کے موقع پیدا کرنے کے لئے درکار ہے؛
- مبجر انویسٹمنٹ ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے جو کہ صاف ٹیکنالوجی اور صاف پائیدروجن کے لئے ہے جو اچھی ملازمتوں کے پیدا کرنے میں مدد کرے گا اور کینیڈا کو نیٹ زیرو ٹرانزیشن (ماحولیاتی آلودگی اور غیرآلودگی کو مساوی کرنے کے عبوری سفر) میں ایک ریننمبا نئے گا؛
- ایک نیا ٹیکس لگو کیا جا رہا ہے جو پبلک کارپوریشنز کی جانب سے شیئر کی دوبارہ خرید کرنے پر پوگا۔ اور،
- پائیدار جائز ٹریننگ سینٹر بنانے جائیں گے اور ایک نئے پائیدار جاب سٹریم میں سرمایہ کاری کی جائے گی یونین کی ٹریننگ اور جدید پروگرام میں تا کہ ورکرز کو وہ بزر مندیاں سکھائی جائیں جو آج اور مستقبل کی اچھی ملازمتوں کے لئے درکار ہیں۔

متعلقہ مصنوعات

2022 فال اکنومک استیممنٹ (2022 خزان کا معاشی گوشوارہ)

- ڈپٹی پرائم منسٹر کی تقریر
- پس منظر میں: زندگی کو مزید قابل استطاعت بنانا
- پس منظر میں: ربائش کو مزید قابل استطاعت بنانا
- پس منظر میں: روزگار، ترقیات، اور ایک ایسی معيشت جو سب کے لئے کارگر ہو
- ٹیکنیکل پس منظر میں: کینیڈا گروٹھ فنڈ



منسلکہ لنکس (روابط)

- [Annual Financial Report 2021-2022](#)
- [Affordability Plan](#)
- [Legislation to double the GST Credit for six months receives Royal Assent](#)
- [Government of Canada introduces legislation to make life more affordable for Canadians](#)
- [Legislation to grow Canadian economy and make life more affordable receives Royal Assent](#)
- [Deputy Prime Minister outlines government's Affordability Plan for Canadians](#)

رابط
میڈیا رابطہ کر سکتا ہے:

Adrienne Vaupshas
پریس سیکریٹری
Office of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance
Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca

میڈیا ریلیشنز
Department of Finance Canada
mediare@fin.gc.ca
613-369-4000

عام سوالات
Phone: 1-833-712-2292
TTY: 613-369-3230
financepublic-financepublique@fin.gc.ca



Department of Finance
Canada

Ministère des Finances
Canada

Canada